



روحیل نذیر کا پہلے ٹرائلز میں ناکامی سے قومی انڈر 19 ٹیم کی قیادت تک کا سفر

- دوہزار پندرہ میں پہلی بار کرکٹ ٹرائلز دئیے تو ناکامی پر بہت مایوس ہوا، روحیل نذیر

لاہور، 07 جنوری 2020ء:

اسلام آباد سے تعلق رہنے والے وکٹ کیپر بیٹسمین روحیل نذیر آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈکپ 2020 میں قومی اسکواڈ کی قیادت کریں گے۔

ٹیپ بال سے کرکٹ کا آغاز کرنے والے روحیل نذیر نے اپنے بڑے بھائی طاہر نذیر کو دیکھتے ہوئے کرکٹ کھیلنا شروع کی۔ نوجوان کرکٹر نے کہا کہ اہل خانہ کی اسپورٹ کے باعث انہیں شوق کی تکمیل میں کسی بڑی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا تاہم پی سی بی پیپسی انڈر 16 کرکٹ پروگرام 2015 میں ٹرائلز کے لیے منتخب نہ ہونے پر وہ دلبرداشتہ ہو گئے تھے۔

آئندہ سال ٹرائلز میں کامیابی پر روحیل نذیر کو اسلام آباد انڈر 16 ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ پی سی بی پیپسی انڈر 16 دو روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ 2016 کے 4 میچوں میں اسلام آباد انڈر 16 کی جانب سے 394 رنز بنانے پر روحیل نذیر کو 2017 میں آسٹریلیا کے خلاف قومی انڈر 16 کرکٹ ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں کھیلی گئی سیریز میں بھی وکٹ کیپر بیٹسمین نے شاندار کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھا۔

انہوں نے سیریز میں شامل 3 ایک روزہ میچوں میں 2 سنچریوں کی مدد سے 258 اور 3 ٹی ٹونٹی میچوں میں ایک نصف سنچری کی بدولت 99 رنز اسکور کیے۔ انڈر 19 انٹرنیشنل ایک روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ 2017 میں روحیل نذیر نے 8 میچوں میں 67.67 کی اوسط سے 406 رنز بنائے۔ وکٹ کیپر بیٹسمین نے اسی سال

انڈر 19 انٹرنیشنل تین روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ کے 5 میچوں میں 508 رنز بنائے۔ 4 نصف سنچریاں اور 1 سنچری اسکور کرنے والے روحیل نذیر نے ایونٹ میں 63.50 کی اوسط سے رنز اسکور کیے۔

دوبار اٹھارہ میں فرسٹ کلاس ڈیبیو کرنے والے نوجوان وکٹ کیپر بیٹسمین نے رواں سیزن میں قائداعظم ٹرافی کے فائنل سمیت 6 میچوں میں 320 رنز اسکور کیے۔ وکٹ کیپر بیٹسمین ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 میں ملتان سلطانز کی نمائندگی کریں گے۔ وہ گذشتہ سال اسلام آباد یونائیٹڈ کے اسکواڈ کا حصہ تھے۔

پیٹرنز ٹرافی گریڈ ٹو، قومی ٹی ٹونٹی کپ اور قائداعظم ون ڈے کپ کھیلنے والے کپتان قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا کہنا ہے کہ ڈیبیو فرسٹ کلاس میچ میں سنچری اسکور کرنا ان کے کیریئر کی بہترین اننگز ہے۔ انہوں نے گذشتہ سال قائداعظم ٹرافی میں اسلام آباد ریجن کی نمائندگی کرتے ہوئے ایچ بی ایل کے خلاف اپنے ڈیبیو میچ کی پہلی اننگز میں 130 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔ وکٹ کیپر بیٹسمین کی اننگز میں 15 چوکے اور 1 چھکا شامل تھا۔

روحیل نذیر کا کہنا ہے کہ قومی کرکٹر عماد وسیم نے انہیں ہمیشہ اسپورٹ کیا ، دونوں کھلاڑیوں کا تعلق ایک ہی شہر سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ عماد وسیم نہ صرف انہیں اہم ٹپس دیتے بلکہ عمدہ کارکردگی دکھانے پر ہمیشہ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔

روحیل نذیر نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر ان کے پسندیدہ کرکٹر اے بی ڈویلپرز ہیں اور وہ ان کی طرح آل راؤنڈ کارکردگی دکھانے کے خواہشمند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی سطح پر احمد شہزاد ان کے آئیڈیل کرکٹر ہیں۔ روحیل نذیر نے کہا کہ دوران بیٹنگ بک فٹ پنچ ان کا پسندیدہ اسٹروک ہے۔

وکٹ کیپر بیٹسمین اے سی سی یوتھ انڈر 19 ایشیا کپ 2017 اور 2018، آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 2018 اور اے سی سی ایمرجنٹ کپ 2019 میں پاکستان کی نمائندگی کرچکے ہیں۔ روحیل نذیر نے گذشتہ ماہ اے سی سی ایمرجنٹ ایشیا کپ 2019 کے فائنل میں شاندار سنچری اسکور کرکے جیت میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔

روحیل نذیر کا کہنا ہے کہ وہ اس سے قبل بھی پاکستان کی جانب سے میگا ایونٹ میں شرکت کرچکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ایچ گروپس کرکٹ میں گذشتہ دو سالوں

سے بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرنے کے باعث ان کے کھیل میں نکھار آیا ہے اور جنوبی افریقہ روانگی سے قبل وہ پراعتماد ہیں۔

روحیل نذیر نے کہا کہ آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈکپ 2020 کے لیے منتخب کردہ اسکواڈ میں ایسے کھلاڑی ہیں جو اس سے قبل بھی پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرچکے ہیں لہذا قومی اسکواڈ ایونٹ میں بہتر کھیل پیش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایونٹ کے دوران حیدر علی اور مجھ پر اہم ذمہ داری ہوگی جس پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔

اسکواڈ (یکم ستمبر 2000 یا اس کے بعد پیدا ہونے والے کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جاسکتا تھا):

اوپنرز: عبدالواحد بنگلزئی (کوئٹہ)، حیدر علی (راولپنڈی) اور محمد شہزاد (ملتان)۔

مڈل آرڈرز: محمد حارث (پشاور)، محمد حریرہ (سیالکوٹ) اور محمد عرفان خان (لاہور)۔

وکت کیپر: روحیل نذیر (کپتان)۔

آراؤنڈرز: عباس آفریدی (پشاور)، فہد منیر (لاہور)، قاسم اکرم (لاہور)۔

اسپنرز: عامر علی (لاڑکانہ) اور آرش علی خان (کراچی)۔

فاسٹ باؤلرز: عامر خان (پشاور)، محمد وسیم جونیئر (شمالی وزیرستان) اور طاہر حسین (ملتان)۔

ٹیم منیجمنٹ:

اعجاز احمد (ہیڈ کوچ کم منیجر)، راؤ افتخار انجم (باؤلنگ کوچ)، عبدالمجید (اسسٹنٹ کوچ)، حافظ نعیم الرسول (فزیو تھراپسٹ)، صبور احمد (ٹرینر)، عثمان ہاشمی (اینالسٹ)، عماد حمید (میڈیا منیجر) اور کرنل (ر) عثمان رفعت انوری (سیکورٹی منیجر)۔

شیڈول:

19 جنوری 2020: پاکستان بمقابلہ اسکاٹ لینڈ
22 جنوری 2020: پاکستان بمقابلہ زمباوے
24 جنوری 2020: پاکستان بمقابلہ بنگلہ دیش
9 فروری 2020: فائنل

–ENDS–

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad
Editor – Urdu Content
Media and Communications
E: ibrahim.badees@pcb.com.pk
M: +92 (0) 345 474 3486
W: www.pcb.com.pk